



پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والی نازیہ نذیر کی کرکٹ سے محبت

- رشتہ داروں کے ڈر سے چھپ کر کرکٹ کھیلتی تھی، نازیہ نذیر
- گرین کیپ نہ ملی تو نازیہ نذیر نے امپائرنگ میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا

لاہور، 17 ستمبر 2019ء:

قومی ویمن کرکٹ امپائر نازیہ نذیر کا تعلق اوکاڑہ کے نواحی قصبے حویلی لکھا سے ہے۔ صوبہ پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے کی رہائشی نازیہ نذیر کا تعلق ایک زمیندار خاندان سے ہے۔ نازیہ نذیر کا کہنا ہے کہ ہمارے علاقے میں خواتین کو تعلیم کے زیادہ مواقع فراہم نہیں کیے جاتے۔ ایسے میں وہاں کی ایک خاتون کا کھیلوں کی طرف راغب ہونا آسان نہیں تھا۔

30 سالہ نازیہ نذیر والدین سے چھپ کر کرکٹ کھیلا کرتی تھیں۔ خاتون امپائر کا کہنا ہے کہ انہیں کرکٹ سے پیار ہے۔ کالج کے زمانے میں رشتہ داروں کے ڈر سے خواتین کرکٹ میچ کے بعد دانستہ طور پر میڈیا کوریج کا حصہ نہیں بنتی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کرکٹ کھیلتے ہوئے کوئی انٹرویو یا تصویر اہلخانہ نے دیکھ لی تو شوق کی تکمیل ایک خواب رہ جائے گا۔ نازیہ نذیر حالات کی سختی کے باعث اپنے کیریئر کا عروج نہ دیکھ سکیں اور گرین کیپ کے حصول میں ناکام رہیں۔

سابق کرکٹر نے ہمت نہ ہاری اور کرکٹ سے منسلک رہنے کا فیصلہ کیا۔ گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ لاہور کی لیکچرار نازیہ نذیر نے گذشتہ سال بطور ویمن امپائر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ وہ گذشتہ سیزن میں قومی انٹر ڈیپارٹمنٹل ویمن کرکٹ ٹورنامنٹ کا ایک میچ سپروائز کروا چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بطور امپائر میدان میں اترنے سے قبل وہ ساری رات سو نہیں سکیں۔ اگلے روز میچ سپروائز کرنے کی خوشی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا وہ اس وقت صرف یہ دعا کر رہی تھیں کہ یہ خوشی تادیر سلامت رہے۔

ایمپائرنگ میں اپنے سفر کا آغاز کرنے والی نازیہ نذیر کا ہدف انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ایلٹیٹ پیئل میں جگہ بنانا ہے۔ نازیہ نذیر قومی ٹرائنگولر ایک روزہ ویمن کرکٹ ٹورنامنٹ میں شامل 6 ویمن ایمپائرز میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی سطح کے مقابلوں میں بطور ایمپائرز میچز سپروائزر کرنے سے ان کی کارکردگی میں تسلسل آئے گا۔

نازیہ نذیر نے خواتین کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاہم ان کے سامنے ہمت ہار کر بیٹھنا دانشمندی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویمن کرکٹ کے فروغ کے لیے سب کو آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرکٹ ایک بہترین کھیل ہے اور اس کی ترقی معاشرے کی ترقی ہے۔
- ENDS -

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk

@therealpcb

@PakistanCricketBoard

@PakistanCricketOfficial

@therealpcb

PCB Headquarters

Gaddafi Stadium

Ferozpur Road, Lahore

Pakistan, PO Box 54000

T: +92 42 3571 7231-4